



وَ شَخْصٌ هَرَكَرَجَنِمْ مِنْ دَاخِلِ نَهْيَنِ هَوْكَا، جَسْ نَهْ سُورَجْ نَكْلَنِ اُورْ سُورَجْ ڈُونِنِ سَهْ بَلَانِ نَمَازْ پُرْهِنِ

ابو زَئِير عَمَارَ بْن رَؤَبَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَهْ رَوَاهِتْ، وَ كَذَنِهِنِ كَهُنَّا كَهُنَّا رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ نَهْ فَرَمَايَا : "وَ شَخْصٌ هَرَكَرَجَنِمْ مِنْ دَاخِلِ نَهْيَنِ هَوْكَا، جَسْ نَهْ سُورَجْ نَكْلَنِ اُورْ سُورَجْ ڈُونِنِ سَهْ بَلَانِ نَمَازْ پُرْهِنِ"

[صحيح] [اسے مسلم نہ روایت کیا ہے]

الله کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ شخص هرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جس نہ فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھی ان دونوں نمازوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ سب سے بھاری نمازوں میں صبح کا وقت نیند کی لذت کا وقت ہوتا ہے اور عصر کا وقت دن کے کاموں اور کاروبار میں مشغول رہنا کا وقت طاہر سی بات ہے کہ جو ان مشکل اوقات کی نمازوں کی پابندی کرے گا، وہ باقی اوقات کی پابندی بدرجہ اولی کرے گا۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6215>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

